



سوال

(146) مؤذن و امام صحابہ کرام بیت المال سے تخواہ لیتے تھے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

زمانہ رسالت میں اکثر صحابہ غیر صحابہ ملکوں میں امیر بنا کر بھیجے جاتے تھے کیا وہ ملکی و مذہبی (جس میں امامت کا کام بھی سپرد تھا) دونوں خدمت کے لیے بیت المال سے تخواہ لیا کرتے تھے۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

زمانہ رسالت میں جن صحابہ کو کسی مقام میں عامل بنا کر بھیجا گیا تھا، ان کو بیت المال سے بغیر شرط و تعیین کے ان کی ضروریات کے مطابق اس قدر ملتا تھا، جس سے ان کا چل چلتا، اور وہ بھی خاص امامت کے مقابلہ میں نہیں، جیسا کہ سائل خیال کر رہا ہے۔ (محدث دہلی 1941ء)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ شیخ الحدیث مبارکپوری

جلد نمبر 1

صفحہ نمبر 237

محدث فتویٰ